

برائے فوری اجراء

برامپٹن میں نیشنل انڈیجینس پیپلز ڈے کی اہمیت کو جوش و خروش سے اجاگر کیا جا رہا ہے

برامپٹن، آن (9 جون 2022) – سٹی آف برامپٹن آپ کو 22 جون کو دن 12 تا رات 8 بجے تک کین ویلنز اسکوائر میں مقامی لوگوں کے قومی دن (National Indigenous Peoples Day) کی خوشیوں میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ تاریخ، ثقافت اور برامپٹن کی خوبصورت متنوع آبادی کا جشن مقامی لوگوں کی ملکیتی وینڈر مارکیٹ، غروب آفتاب کے جشن، بورن ان دی نارٹھ لمیٹڈ کی جانب سے بگ ڈرم آرٹ انسٹالیشن، فائر سائیڈ چیٹ اور دلکش لائیو پرفارمنس کے ساتھ منائیں۔

21 جون کو، کینیڈا میں آبائی لوگوں کا قومی دن منایا جاتا ہے تاکہ فرسٹ نیشنز، انوٹ اور میٹیس لوگوں کی تاریخ، ورثے اور تنوع کی اہمیت کو تسلیم کیا جا سکے۔

آبائی لوگوں کی ملکیتی وینڈر مارکیٹ

22 جون کو دن 12 سے رات 8 بجے تک موقع پر لگائی جانے والی اس مارکیٹ میں مقامی اور آبائی ملکیتی کاروباروں کے بنرمندوں کی دل کھول کر مدد کریں جن میں موتیوں اور کرسٹل کے زیورات، شاعری، لباس، لوازمات، آرٹ ورک اور یگر بہت کچھ شامل ہے۔ فروخت کنندگان کی مکمل فہرست brampton.ca/NIPD پر ملاحظہ کریں۔

غروب آفتاب کا جشن

شام 6 سے 8 بجے تک، فائر سائیڈ چیٹ میں حصہ لیں، چیپووا ٹریولرز (Chippewa Travellers) اور ڈین اینڈ جان بیفیلڈ (Deanne & John Hupfield) کی لائیو پرفارمنس اور برن ان دی نارٹھ لمیٹڈ کی جانب سے بگ ڈرم کے عنوان سے ایک آرٹ تنصیب کی نقاب کشائی دیکھیں۔

بگ ڈرم آرٹ کی تنصیب

بورن ان دی نارٹھ لمیٹڈ کی جانب سے بنایا گیا، 10 فٹ کے 'بگ ڈرم' کی تنصیب دھرتی ماں اور قوم کے دل کی دھڑکن کی نمائندگی کرتا ہے، جو جشن میں جمع ہونے کی علامت ہے۔ ٹرٹل آئی لینڈ میں بہت سی آبائی ثقافتیں، جشن میں ڈرم بجانے کی تقریب میں شریک ہوں گی۔ بگ ڈرم آرٹ انسٹالیشن کا وژن اس ڈرم کو تخلیق کرنا تھا تاکہ اسے آبائی لوگوں کے فخر اور جشن کی زندگی سے زیادہ بڑی علامت کے طور پر دکھایا جائے۔ ثقافتی اجتماعات میں اکثر ڈھول کی آواز سب سے پہلے نظر آتی ہے اور بورن ان دی نارٹھ لمیٹڈ احساس کی اس طاقت کو اس دلکش شاہکار کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے۔

بورن ان دی نارٹھ لمیٹڈ ایک تخلیقی اسٹوڈیو ہے جو جڑواں بھائیوں کرس اور گریگ مچل کی ملکیت ہے اور وہ خود اسے چلا رہے ہیں۔ ان کا کام ان کے اپنے منفرد نقطہ نظر کے مطابق تخلیق کیا گیا ہے اور یہ انسانوں اور فطرت کے درمیان پائے جانے والے تعلق کو جانچنے پر مرکوز ہے۔ ان کی اپنی کہانی اور زندگی کے تجربات کو مدنظر رکھتے ہوئے، ان کے Mi'kmaq ورثے، موسیقی کی تلاش اور کینیڈا کی پرورش کے رنگ اس میں نمایاں ہیں۔

سٹی آف برامپٹن کے آبائی لوگوں کے قومی دن کی تقریب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے brampton.ca/NIPD پر جائیں۔

اقتباسات

"فرسٹ نیشنز، انوٹ اور میٹیس کمیونٹیز کی بھرپور اور متنوع ثقافتوں، دلکش آوازوں اور خوبصورت تجربات کے بارے میں مزید جاننے اور ان کا جشن منانے کے لیے 22 جون کو کین ویلنز اسکوائر میں ہمارے مقامی لوگوں کے قومی دن کی تقریب میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔"

"برامپٹن میں مختلف کمیونٹیز کی خوبصورتی کی عکاسی ہوتی ہے اور میں اپنی متنوع کمیونٹی کے جشن کو منانے کے ہر موقع کا خیرمقدم کرتا ہوں۔ مقامی لوگوں کے اس قومی دن میں، میں ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ فرسٹ نیشنز، انونٹ اور میٹیس کمیونٹیز اور اس سرزمین کی سنہری تاریخ کے بارے میں جانیں۔"

- ہرکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کے لوگ، ورثے اور اس کی متنوع کمیونٹی کی خوبصورت ثقافت اس شہر کو خاص بناتی ہے۔ ہمارے تنوع اور اس سرزمین کی ترقی میں آبائی کمیونٹیز کے کردار کا جشن منانے کے لیے سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہمارے 22 جون کے پروگرام میں آبائی لوگوں کے ملکیتی کاروباروں کی حمایت کریں۔"

- پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](http://www.brampton.ca)، [فیس بک](http://www.brampton.ca) اور [انسٹاگرام](http://www.brampton.ca) پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca